

## 222685- اگر جمعہ کی رات طاق رات ہو تو کیا وہی لیلة القدر ہوگی؟

سوال

اس سال رمضان میں 27 ویں رات جمعہ کی رات کو آ رہی ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: "اگر جمعہ کی رات کو آخری عشرے کی کوئی طاق رات آئے تو عین ممکن ہے کہ یہی رات لیلة القدر ہو" تو کیا یہ صحیح ہے؟

پسندیدہ جواب

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے منسوب قول ہمیں نہیں ملا، البتہ اسے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ابن ہبیرہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ: "اگر جمعہ کی رات آخری عشرے کی کوئی طاق رات بنے تو اس رات کے لیلة القدر ہونے کی زیادہ امید ہے" انتہی  
"لطائف المعارف لابن رجب" (ص/203)

ممکن ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پر یہ بات کی ہو کہ جمعہ کی رات پورے ہفتہ میں سب سے افضل ترین رات ہے، چنانچہ اگر رمضان میں کوئی طاق رات بھی اسی رات کو آئے تو اس کے لیلة القدر ہونے کا عین امکان ہے، تاہم ہمیں اس بات کی تائید میں احادیث نبویہ اور آثارِ صحابہ نہیں ملے۔

احادیث میں یہ بات ہے کہ لیلة القدر آخری عشرے میں تاریخیں بدل کر آتی ہے، اور طاق راتوں میں لیلة القدر آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور طاق راتوں میں سے 27 ویں رات کے لیلة القدر ہونے کا زیادہ امکان ہے، تاہم اس کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جاسکتا۔

چنانچہ مسلمان کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے پورے آخری عشرے میں لیلة القدر کی تلاش کیلئے بھرپور کوشش کرے۔

شیخ سلیمان الماجد حفظہ اللہ کہتے ہیں:

"ہمیں شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی کہ جب جمعہ کی رات طاق رات ہو تو وہی لیلة القدر ہوگی، لہذا اس بارے میں یقینی طور پر کہنا درست نہیں، چنانچہ شرعی عمل یہ ہوگا کہ پورے عشرے میں لیلة القدر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، لہذا پورے عشرے میں جدوجہد کرنے والا یقینی طور پر لیلة القدر پالے گا۔ واللہ اعلم" انتہی

<http://www.salmajed.com/fatwa/findfatawa.php?arno=9880>

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

"لیلة القدر صرف رمضان میں ہے، اور رمضان میں سے بھی آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں سے طاق راتوں میں ہے، ان طاق راتوں میں سے کسی متعین رات میں نہیں ہے، لیلة القدر کے بارے میں وارد شدہ تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے" انتہی

"فتح الباری" (4/260)

نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"ابن کعب رضی اللہ عنہ کا موقف کہ: وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ 27 ویں رات ہی ہے، یہ لیلة القدر کے بارے میں متعدد آراء میں سے ایک ہے، اکثر علمائے کرام اس بات کے قائل

ہیں کہ رمضان کی یہ رات معین نہیں ہے بلکہ مبہم ہے، تاہم زیادہ امید یہی ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہے، اور طاق راتوں میں سے بھی 27، 25، 23 اور 21 ویں رات کے لیلة القدر ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔

اکثر علمائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک ہی رات ہے جو کہ بدلتی نہیں ہے۔

لیکن محقق علمائے کرام کا کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال بدل کر آتی ہے، چنانچہ کسی سال میں 27 ویں رات لیلة القدر ہوتی ہے تو کسی سال میں 23 ویں رات، اور کسی سال 21 ویں رات ہوتی ہے، اور کسی سال کوئی اور رات ہوتی ہے یہی موقف زیادہ بہتر ہے، اور اس طرح لیلة القدر کے بارے میں مختلف احادیث کے مابین تطبیق بھی ہو جاتی ہے "انتہی شرح صحیح مسلم" از نووی: (6/43)

مزید فائدے کیلئے سوال نمبر: (50693) کا مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم۔